

## فہرست مضامین

| صفحہ نمبر | نمبر شمار  |
|-----------|--|
| 9         | 1 تعارف از مصنف  |
| 12        | 2 اپنے بل بوتے پر کروڑ پتی بننے والے                           |
| 14        | 3 مذکورہ 10 کروڑ پتیوں کی دولت کی وسعت                         |
| 14        | 4 یہ کتاب آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے                             |
| 17        | 5 ایک سال میں اپنی آمدن کو دو گنا کریں                         |
| 19        | 6 دولت کے اصولوں کا اطلاق کرنا                                 |
| 21        | 7 میں آغاز کہاں سے کروں؟                                       |
| 22        | 1 امیر بننے کے لیے اہم ترین بنیادی شرط                         |
| 24        | 2 پرانا وقت اچھا تھا جس میں ہر کام نسبتاً آسانی سے ہو جاتا تھا |
| 26        | 3 میں بہت کم عمر ہوں!  |
| 27        | 4 میری امیر ہونے کی عمر گزر چکی ہے!                            |
| 31        | 5 میرے پاس سرمایہ نہیں ہے                                      |
| 32        | 6 میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں                                     |
| 36        | 7 کیا مجھے امیر ہونے کے لیے کسی پیدائشی صلاحیت کی ضرورت ہے؟    |
| 37        | 8 میرے پاس وہ توانائی نہیں ہے جو اس کے لیے درکار ہے            |
| 38        | 9 مجھے ناکام ہونے سے ڈر لگتا ہے                                |
| 40        | 10 آپ اب تک ناکام کیوں ہوتے رہے ہیں؟                           |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 42  | بہانوں کی فہرست  | 11 |
| 49  | ہنری فورڈ کا جادوئی اعتقاد   | 1  |
| 51  | اس کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ  | 1  |
| 56  | میں نے یہ عزم کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا کہ آئندہ کبھی احکامات نہیں لوں گا | 2  |
| 65  | دولت کو کیسے پائیں   | 🌸  |
| 69  | آپ کے اندر موجود سونے کی کان   | 🌸  |
| 70  | یہ صرف رویے کا سوال ہے   | 1  |
| 71  | تحت الشعور کیا ہے؟   | 2  |
| 72  | تحت الشعور کی پروگرامنگ کیسے ہوتی ہے؟                                    | 3  |
| 73  | چند الفاظ آپ کی زندگی کیسے بدل سکتے ہیں                                  | 4  |
| 76  | ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی کہ آپ امیر نہ ہو سکیں                            | 5  |
| 80  | پرسکون کیسے ہوں؟   | 6  |
| 90  | رے کروک  | 2  |
| 109 | اپنے ذہنی جمود سے چھڑکارا پائیں  | 🌸  |
| 111 | دولت کی حقیقی اہمیت  | 1  |
| 114 | اس بات کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے کہ آپ امیر کیوں نہیں ہو سکتے             | 2  |
| 116 | اپنے ذہن کو دولت کے خیالات سے بھر لیں                                    | 3  |
| 118 | اس وقت تک اپنے خواب کی پیروی کریں جب تک آپ اپنی قسمت نہ بنا لیں!         | 4  |
| 119 | آپ کے ذہن کی تجربہ گاہ   | 5  |
| 119 | آپ کا تحت الشعور کوئی غلطی کیے بغیر آپ کو دولت تک لے جائے گا             | 6  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 123 | صحیح فیصلہ سازی                                       | ☼ |
| 132 | اب ابھی کرو!  | 1 |
| 138 | کیوں نہ سکہ اچھا لیا جائے؟                            | 2 |
| 141 | وقفہ لیجئے  | 3 |
| 142 | کیا بہترین وقت کا انتظار کرنا ضروری ہے!               | 4 |
| 142 | اپنے فیصلے پر ڈٹے رہیں                                | 5 |
| 143 | آپ کو کب تک اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنا چاہیے؟             | 6 |
| 147 | اپنی ناکامیوں کو بھولنا سیکھیں!                       | 7 |
| 148 | اپنی غلطیوں سے سیکھیں!                                | 8 |
| 149 | پال گئی ☼   | 3 |
| 165 | امیر ہونے کا بہترین طریقہ                             | ☼ |
| 176 | سٹیون سپیل برگ ☼                                      | 4 |
| 201 | بہترین ہونے کے لیے کام کرنا                           | ☼ |
| 203 | وہ بننے کی جرات پیدا کریں جو آپ اصل میں ہیں           | 1 |
| 208 | ارسٹوکل اوناسس ☼                                      | 5 |
| 227 | اپنے شعبے کے ماہر بن جاؤ                              | ☼ |
| 228 | مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا کرنا پسند کروں گا | 1 |
| 232 | جو آپ پہلے سے دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ اپنے لیے کریں | 2 |
| 232 | حقیقی تعلیم کا راز                                    | 3 |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 239 | سوئیکارو ہونڈا           | 6   |
| 255 | مقاصد کا جادو   |    |
| 262 | بلند ہدف بناؤ   | 1   |
| 265 | اپنے ہدف کو لکھ لیں   | 2   |
| 266 | ایک شاندار وہم (خیال مسلط)  | 3   |
| 269 | والٹ ڈزنی                | 7   |
| 287 | ایک لائحہ عمل   |    |
| 289 | اپنا لائحہ عمل تیار کرنا  | 1   |
| 292 | ایک وقت میں دو سے زیادہ اہداف نہیں  | 2   |
| 292 | آپ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟   | 3   |
| 295 | اگلے سال کی ہدف کی نشاندہی کریں   | 4   |
| 296 | خود کو منظم کریں  | 5   |
| 298 | کامیابی ایک عادت ہے   | 6   |
| 299 | جان ڈیوی سن راک فیملر  | 8   |
| 315 | موثر انداز میں کام کرنا سیکھنا  |  |
| 316 | ہر سال کو 13 مہینوں کا کیسے بنائیں  | 1   |
| 316 | کامیابی آپ کی واحد عادت بن جانی چاہیے!  | 2   |
| 317 | جو کام آپ عموماً 3 گھنٹے میں کرتے ہیں اسے آپ ایک گھنٹے میں ختم کریں                                       | 3   |
| 321 | توجہ مرکوز کرنے کی مشق  | 4   |
| 323 | جب آپ اپنے لیے ایک ہدف مقرر کر لیں تو اس پر ڈٹے رہیں  | 5   |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 326 | غرور کی صحیح فہم                                 | 6  |
| 329 | تھامس واٹسن                                      | 9  |
| 344 | مزید ایک میل کا فاصلہ طے کرنا ہے                 | 1  |
| 347 | کامیابی کی نفسیات                                | 1  |
| 348 | کامیابی پوری ٹیم کی کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے      | 1  |
| 351 | کونزوٹنکسن ہلٹن                                  | 10 |
| 369 | کامیابی کے لیے مشورے                             | 1  |
| 370 | ہارنے والے                                       | 1  |
| 371 | سکیمیں بنانے والے                                | 2  |
| 371 | کو تاہ میں لوگ                                   | 3  |
| 374 | ابلاغ کرنا سیکھیں                                | 4  |
| 375 | ایک اچھی سرمایہ کاری کریں                        | 5  |
| 375 | سننا سیکھیں                                      | 6  |
| 376 | لباس پہننے میں احتیاط کریں                       | 7  |
| 377 | ایک صحت مند دماغ اور صحت مند جسم                 | 8  |
| 378 | دوسرے لوگوں کا پیسہ                              | 9  |
| 380 | آپ احساس کمتری کا شکار ہیں                       | 10 |
| 381 | ایک مثالی نمونے کا انتخاب کریں                   | 11 |
| 381 | ایک مثالی نمونہ ایسی مثال ہے جس کی پیروی کی جائے | 12 |

